

برائے فوری اجراء

سٹی، کاروبار زندگی کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کے حوالے سے زیر غور منصوبوں پر، کمیونٹی کی رائے جاننا چاہتا ہے

برامپٹن، آن (12 مئی 2020)۔ میئر کے ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ نے کمیونٹی کے ساتھ رابطہ شروع کر دیا ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شہر کا دوبارہ کھلنا عوام اور عملے کی خدمات اور حفاظت کی ضروریات پر پورا اترتا ہو۔

اس میں مخصوص صارف گروہوں، کاروباروں اور کمیونٹی گروپس کے ساتھ مشاورتوں کا ایک سلسلہ شامل ہو گا۔ اس ضمن میں 13 مئی کو، اس قسم کی پہلی مشاورت کھیلوں کے گروہوں کے ساتھ کی جائے گی۔

برامپٹن کی کمیونٹی کو [یہاں پر آن لائن دستیاب](https://www.brampton.ca/covid19reopening) حالیہ طور پر شروع کیے جانے والے ری اوپننگ اینڈ ریکوری سروے میں شرکت کر کے یا covid19reopening@brampton.ca پر بذریعہ ای میل اپنی رائے کا اظہار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔

ریجنل کونسلر مارٹن میڈیروس کی زیر نگرانی اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کی رہنمائی میں یہ ورکنگ گروپ سٹی کی سہولت گاہوں کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے محفوظ اور معقول طریقوں پر غور و فکر کرے گا۔ مرحلہ وار طور پر بحالی کے اس عمل کے دوران یہ گروپ کووڈ-19 کی خصوصی ٹاسک فورسز کو رہنمائی فراہم کرے گا تاکہ رہائشیوں، کاروباری اداروں اور ملازمین کو ان کی مطلوبہ معاونت میسر آتی رہے۔

کووڈ-19 کے بارے میں سٹی آف برامپٹن کے اقدامات کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"سٹی کو کبھی بالا آخر کھولنے اور بحالی کے لیے منصوبوں کی تیاری کا انحصار اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون اور صوبے اور ہیل پبلک بلٹھ کی جانب سے رہنمائی پر ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد ایک ہم آہنگ رد عمل کو قائم کرنا ہے، جو کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے میں توانائی کو برقرار رکھے۔ میں اپنی کمیونٹی کی محنت اور لگن کے لیے شکر گزار ہوں اور ان کی مسلسل حمایت کی درخواست کرتا ہوں، جبکہ ہم اپنا رد عمل جاری رکھ رہے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کو بتدریج دوبارہ کھولنے اور بحالی کے لیے ایک محفوظ اور سوچے سمجھے ہوئے منصوبے کی تیاری کے لیے کام اچھی طرح سے جاری ہے۔ ہم اس عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے کمیونٹی کی مسلسل حمایت اور رائے پر انحصار کر رہے ہیں۔ میں سٹی کے اہم فریقین کے ساتھ بامعنی بات چیت کرنے کے لیے پر امید ہوں، جو ہمیں اپنے منصوبوں کو تشکیل دینے اور ایک جامع طریقہ کار کو یقینی بنانے کے قابل بنائے گی۔"

- مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ لیڈ، میئر ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ

"کووڈ-19 کے پھیلنے کے بعد سے، سٹی نے اپنی خدمات اور پروگراموں کی فراہمی میں بڑی تبدیلی لائی ہے۔ شہر کو آخر کار دوبارہ کھولنے اور اپنے کاموں کو دوبارہ شروع کرنے کی جانب دیکھتے ہوئے، ہماری توجہ کا مرکز صرف ایک چیز ہی ہے - یعنی ہماری کمیونٹی کی سلامتی۔ ہمارا مقصد صحت و سلامتی کو ترجیح دیتے ہوئے رہائشیوں اور سٹی کے اہم فریقین کی ضروریات کے درمیان احتیاط سے توازن قائم کرنا ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca